

JS Investments Limited
The Centre, 19th Floor,
Plot No. 28, SB-5,
Abdullah Haroon Road,
Saddar Karachi-74400,
Pakistan.
www.jsil.com

UAN: (+92 21) 111-222-626

JSIL/PSX/2025/1971

October 16, 2025


The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Dear Sir,

Subject: Credit of Cash Dividend (Pre-Publication)

In accordance with Clause 5.6.10 of the PSX Rule Book, we hereby enclose a copy of the captioned notice to unitholders of JS Momentum Factor ETF ("JSMFETF"), a fund under management of JS Investments Limited, that will be published in "The News"(in English) and "Daily Jang" (in Urdu) newspapers (Karachi, Lahore and Islamabad editions) on October 17, 2025.

Yours Sincerely,



Muhammad Khawar Iqbal
COO & Company Secretary



CREDIT OF INTERIM CASH DIVIDEND

The unitholders of JS Momentum Factor ETF ("JSMFETF"), a fund managed by JS Investments Limited ("JSIL"), are hereby informed that the Interim Cash Dividend amounting to Rs. 1 per share, i.e., 10% for the year ending June 30, 2026, approved by the Chief Executive Officer (under the authority delegated by the Board of Directors) on September 23, 2025, has been electronically credited directly into the designated bank accounts of the entitled unitholders who have submitted valid Computerized National Identity Cards (CNICs), International Bank Account Numbers (IBANs), and other ancillary details.

Registration on CDC's e-Services Web Portal:

Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) has developed a Centralized Cash Dividend Register (CCDR), an e-services web portal that contains details pertaining to cash dividends paid, unpaid, or withheld by listed companies. The CCDR will help to maintain a history of dividends paid to unitholders by listed companies, and access to all such information will be provided to the respective unitholders. The web portal will facilitate unitholders of listed companies in retrieving details of cash dividends from the centralized register and using the same for their record purposes. Unitholders may access CCDR via csp.cdcaccess.com.pk/

In addition to the above, the Dividend/Zakat & Tax Deduction Report can also be obtained directly from the Participant (Stockbroker) which has been provided to them on their CDS terminals. Moreover, unitholders may also receive a copy of this report at their provided email addresses.

Pursuant to Sections 242-243 of the Companies Act, 2017, read with Section 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, the Fund has withheld dividends of unitholders who have not provided complete and accurate information, including valid IBANs and correct bank account details.

In order to receive cash dividends withheld by the Fund, the unitholders of JS Momentum Factor-ETF are advised to submit a legible copy of their valid CNIC and/or provide complete bank account details, including valid 24-digit IBANs to their respective Participant/Broker/CDC Investor Account Services. This information can also be provided using the E-Dividend Mandate Form available on the following link: <https://jsil.com/all-downloads/amc-corporate-governance-document/> to facilitate the release of their entitlements.

By order of the Board

Karachi.
October 17, 2025

Muhammad Khawar Iqbal
COO & Company Secretary

JS Investments Limited

19th Floor, The Centre, Plot No. 28, SB-5, Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi - 74400.
Toll-free: 0800-00887 | Email: ir@jsil.com | Website: www.jsil.com

عبوری نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی

جے ایس انویسٹمنٹس لمیٹڈ ("JSIL") کے زیر انتظام فنڈ "جے ایس منٹم فیکٹری ٹی ایف" ("JSMFETF") کے یونٹ ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لئے 1 روپے فی حصص یعنی 10 فیصد کا عبوری نقد منافع منقسمہ، جس کی منظوری چیف ایگزیکٹو آفیسر نے (بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تفویض کردہ اتھارٹی کے تحت) 23 ستمبر 2025 کو دی تھی، ان حقدار یونٹ ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں الیکٹرانک طور پر براہ راست جمع کر دیا گیا ہے، جنہوں نے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی)، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) اور دیگر ضمنی تفصیلات جمع کر دی ہیں۔

سی ڈی سی کے ای سروسز ویب پورٹل پر رجسٹریشن:

سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) نے ایک سینٹرلائزڈ کیش ڈیویڈنڈ رجسٹر (CCDR) تیار کیا ہے، جو ایک ای سروسز ویب پورٹل ہے، جس میں لسٹڈ کمپنیوں کی جانب سے ادا شدہ، غیر ادا شدہ یا روکے گئے کیش ڈیویڈنڈز سے متعلق تفصیلات شامل ہیں۔ CCDR لسٹڈ کمپنیوں کی طرف سے یونٹ ہولڈرز کو ادا کیے جانے والے ڈیویڈنڈز کے ریکارڈ کو برقرار رکھنے میں معاونت کرے گا اور اس طرح کی تمام تر معلومات تک متعلقہ یونٹ ہولڈرز کو رسائی فراہم کی جائے گی۔ ویب پورٹل لسٹڈ کمپنیوں کے یونٹ ہولڈرز کو سینٹرلائزڈ رجسٹر سے کیش ڈیویڈنڈ کی تفصیلات حاصل کرنے اور اسے اپنے ریکارڈ کے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی سہولت فراہم کرے گا۔ یونٹ ہولڈرز csp.cdcaccess.com.pk/ کے ذریعے CCDR تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

مذکورہ بالا کے علاوہ، ڈیویڈنڈ از کوٹ اور ٹیکس کوٹ کی رپورٹ براہ راست شراکت دار (اسٹاک بروکر) سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے، جو انہیں ان کے سی ڈی سی (CDS) ٹرمینلز پر فراہم کر دی گئی ہیں۔ مزید برآں، یونٹ ہولڈرز اپنے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر بھی اس رپورٹ کی کاپی حاصل کر سکتے ہیں۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242-243 اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کے سیکشن 6 سے مطابقت رکھتے ہوئے، فنڈ نے ان یونٹ ہولڈرز کے ڈیویڈنڈ روک دیئے ہیں، جنہوں نے درست اور مکمل معلومات فراہم نہیں کیں، بشمول درست IBAN اور بینک اکاؤنٹ کی صحیح تفصیلات۔

فنڈ کی جانب سے روکے گئے کیش ڈیویڈنڈ کے حصول کے لیے، جے ایس منٹم فیکٹری ٹی ایف (JSMFETF) کے یونٹ ہولڈرز کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی ایک واضح کاپی اور/یا 24 ہندسوں کے بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) سمیت اپنے بینک اکاؤنٹ کی مکمل تفصیلات اپنے متعلقہ شراکت دار/بروکر/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کریں۔ یہ معلومات درج ذیل لنک پر دستیاب E-Dividend Mandate Form کا استعمال کرتے ہوئے بھی فراہم کی جاسکتی ہیں: <https://jsil.com/all-downloads/amc-corporate-governance-document/> تاکہ ان کے حقوق کے اجراء کو آسان بنایا جاسکے۔

بحکم بورڈ
محمد خاور اقبال
سی او او اور کمپنی سیکرٹری

کراچی: 17 اکتوبر، 2025

جے ایس انویسٹمنٹس لمیٹڈ

19 ویں منزل، دی سینٹر، پلاٹ نمبر 28، SB-5، عبداللہ ہارون روڈ، صدر، کراچی-74400

ٹول فری: 0800-00887 | ای میل: ir@jsil.com | ویب سائٹ: www.jsil.com